

SALTOC Project

Title: Islām aur 'aṣr-i-jadīd

Imprint: Na'ī Dillī: Muḥammad Hafīzuddīn

New Delhi: Zakir Husain Institute of Islamic Studies,
Jamia Millia Islamia University

OCLC: 6727848

Volume 12, no. 3, July 1980

TOC Supplied By: Center for Research Libraries

R. N. 17614/69

ISLAM AUR ASR-I-JADEED

Vol. XII No. 3

Jadid July 1980

Zakir Husain Institute of Islamic Studies,
Jamia Millia Islamia, Jamia Nagar, New Delhi-110025

HD-5949 BU

ہمدرد
سنگھارا
ہر موسم اور ہر عمر میں
سب کے لیے بے مثال طاقت



اپنی روزانہ خوراک سے صحیح تغذیہ حاصل کرنا
جس بات پر توجہ ہے کہ آپ کا نظام ہضم کمزور ٹھیک اور
معاویہ ہے۔
سنگھارا ایسا ایک ایسا طاقت ہے جس میں طاقت
دینے والے ضروری دوائیوں اور معدنی اجزاء کے ساتھ
چھوٹی الائچی، لوہک، دھنیا، دارچینی، تیز پات،
تعمیراتی وغیرہ سی چودہ جڑی بوٹیوں شامل ہیں۔
اس کرب سے آپ کے نظام ہضم کو طاقت ملتی ہے اور
آپ کا بدن اس کی مدد سے آپ کی روزانہ خوراک سے
صحیح تغذیہ اور پھر پورے وقت حاصل کرتا ہے۔

کیا آپ کی روزانہ کی خوراک سے آپ کے بدن کو
پوری قوت اور پورا فائدہ ملتا ہے؟



فہرست مضامین

۵	ضیاء الحسن فاروقی	ابوریحان البیرونی
۳۵	مسح الحسن	کچھ مخطوطے کے بارے میں
۴۱	مولانا ابوالکلام آزاد	البیرونی اور جغرافیہ عالم
۶۱		۱۔ البیرونی کا عہد اور عربی فن جغرافیہ و تخطیط
۶۶		۲۔ ہفت اقلیم
۷۵		۳۔ اقلیموں کی مساحت اور کرہ کی مجموعی مساحت
۷۸		۴۔ خط استواء اور قبتہ الارض
۸۰		۵۔ ہندوستان کے بعض قدیم مقامات
۸۱		۶۔ البیرونی کے اطوال اور موجودہ اطوال کا باہمی فرق
۸۸		۷۔ اُس عہد کی جغرافیائی تحقیقات کی بعض خصوصیتیں
۹۳		۸۔ محمود غزنوی اور البیرونی
۱۰۴		۹۔ ہندوستان میں البیرونی کی حدود سیاحت
۱۰۵		۱۰۔ البیرونی کی دماغی سیرت
۱۱۱		۱۱۔ الصیدنہ اور الجماہر